

2019 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنا

کمیونٹی پر مبنی نئے تنظیموں کو سٹی نے مالی گرانٹ دینے کی منظوری دے دی ہے۔

برامپٹن، آن (3 اپریل 2019) - برامپٹن سٹی کونسل نے 2019 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے تحت مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے 90 درخواستوں کو منظور کیا ہے۔ اس مرتبہ دی جانے والی منظوریوں کی تعداد 2018 میں 34 پروجیکٹس اور پروگراموں کو فراہم کی جانے والی مالی معاونت کی منظوریوں کی تعداد کے مقابلے میں دوگنا سے بھی زیادہ ہے۔

درخواستیں موصول کرنے کے عرصہ 13 دسمبر 2018 تا 31 جنوری 2019 کے دوران مالی معاونت کے لیے کل 106 درخواستیں موصول ہوئی، جن کی تعداد پچھلے سال موصول ہونے والی درخواستوں سے 74 فیصد زیادہ بنتی ہے۔ منظور شدہ مالی معاونت کی کل رقم \$1,530,752.79 بنتی ہے، جو بجٹ میں بنیادی طور پر رکھی گئی \$967,000 کی رقم سے زیادہ ہے۔ لہذا اضافی رقم کمیونٹی گرانٹ کے اضافی وسائل سے نکالی جائے گی۔

کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے اہل تنظیموں کو معاونت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی تقریبات یا پروگراموں کے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور اپنی تنظیموں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ کمیونٹی اور برامپٹن کے ثقافتی پس منظر کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مالی معاونت تہواروں اور تقریبات کے انعقاد، فنون و ثقافت کے پروگراموں، کھیلوں و سیاحت، تفریح اور فعال طرز زندگی کو فروغ دینے کے شعبوں کے لیے دستیاب ہے۔ پڑوس سے محبت سازی کے زمرے میں بھی مالی معاونت دستیاب ہے جس کے لیے درخواستیں تقویمی سال کے اختتام تک ہر مہینے یا فنڈز کے اختتام تک درخواستیں موصول کی جاتی ہیں۔

"برامپٹن میں متنوع نوعیت کی تنظیموں کی بڑی تعداد موجود ہے جو ہمارے شہر کی زندگی کے ہر پہلو میں مثبت تبدیلی لانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے ان تنظیموں کو معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن میں ثقافتی پس منظر کو ایک خوبصورت لڑی میں پروانے میں اپنی معاونت اور شراکت داری پر ہم نہایت خوشی محسوس کرتے ہیں۔

تمام درخواست دہندگان کے ساتھ ان کی درخواستوں کی صورت حال کے حوالے سے اور منظور شدہ وصول کنندگان کے ساتھ ان کی گرانٹ کے معاہدوں کے لیے رابطہ کیا جائے گا۔ سٹی موجودہ طور کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جاننے کے لیے ایک جائزہ منعقد کر رہا ہے کہ اس پروگرام کو مستقبل میں کمیونٹی کی ضروریات کے مطابق کیسے ڈھالا جا سکتا ہے اور اس سال کے درخواست دہندگان اور کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی فیڈبیک حاصل کرنے کا متمنی ہے۔

گرانٹ کے منظور شدہ وصول کنندگان کی مکمل فہرست، کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے بارے میں مزید معلومات یا پڑوس سے محبت سازی کی مدد میں مالی معاونت کے پروگرام میں درخواست دینے کے حوالے سے، براہ کرم www.brampton.ca/communitygrants ملاحظہ کریں۔

